

# SCHOOL BASED ASSESSMENT 2022

## MODEL PAPER

### GRADE 3

## MATHEMATICS PART – A (Objective Type)

[Part A: 50 Marks Part B: 50 Marks Total: 100 Marks]



School : \_\_\_\_\_  
Tehsil : \_\_\_\_\_ District: \_\_\_\_\_

Student Name : \_\_\_\_\_ Section : \_\_\_\_\_  
Roll Number : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

### General Instructions for students :

طلبہ کے لیے عمومی ہدایات:

1) Use mask & keep at least 3 ft. distance from each other.

۱۔ ماسک پہنیں اور آپس میں کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔

2) Read carefully and attempt all questions.

۲۔ غور سے پڑھیں اور تمام سوالات حل کریں۔

3) Encircle the correct option of each of the Multiple Choice Questions (MCQs) as shown in the example given below.

۳۔ ہر کثیر الانتخابی سوال کے صحیح جواب پر دائرہ لگائیں جیسا کہ نیچے دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

Example :  $64 \div 8 =$

a) 4                      b) 6                      c) 8                      d) 12

4) If more than one options are encircled in a question, no mark will be given.

۴۔ اگر کسی سوال میں ایک سے زیادہ جوابات کے گرد دائرہ لگایا گیا تو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔

Total Marks: 50

Part-A (Multiple Choice Questions)

Total Time: 1 Hour

Instructions: Twenty five (25) Multiple Choice Questions (MCQs) are given in this paper. Each question carries 2 marks.

ہدایات: اس پیپر میں پچیس (25) کثیر الانتخابی سوالات دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔

Question No.1 : 16 is written in Roman numbers as:

سوال نمبر 1: 16 کو رومن اعداد میں لکھا جاتا ہے۔

(a) XIV                      (b) XV  
(c) XVI                      (d) XVII

Question No.2 : Which of the following is an even number?

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کون سا عدد جفت ہے؟

(a) 37                      (b) 43  
(c) 54                      (d) 67

Question No.3 : The place value of 4 in the given picture is:

سوال نمبر 3: دی گئی تصویر میں 4 کی مقامی قیمت ہے۔



(a) 4                      (b) 40  
(c) 400                      (d) 4000

Question No.4 : Solve 754 + 143

سوال نمبر 4: حل کریں۔ 754 + 143

(a) 789

(b) 798

(c) 879

(d) 897

Question No.5 : Solve 58 – 25

سوال نمبر 5: حل کریں۔ 58 – 25

(a) 33

(b) 34

(c) 35

(d) 36

Question No.6 : Solve 11 × 2

سوال نمبر 6: حل کریں۔ 11 × 2

(a) 2

(b) 9

(c) 13

(d) 22

Question No.7 : There are 37 boys in a class and each boy has 7 books. Total number of books are:

سوال نمبر 7: ایک جماعت میں 37 لڑکے ہیں اور ہر لڑکے کے پاس 7 کتابیں ہیں، کتابوں کی کل تعداد ہے۔

(a) 259

(b) 269

(c) 279

(d) 289

Question No.8 : If the price of 6 bananas is Rs 30, then price of one banana will be:

سوال نمبر 8: اگر 6 کیلوں کی قیمت 30 روپے ہو تو ایک کیلے کی قیمت ہوگی۔

(a) Rs 5

روپے 5

(b) Rs 24

روپے 24

(c) Rs 36

روپے 36

(d) Rs 180

روپے 180

Question No.9 : Which of the following is an improper fraction?

سوال نمبر 9: مندرجہ ذیل میں سے کون سی کسر غیر واجب ہے؟

(a)  $\frac{3}{5}$

(b)  $\frac{5}{7}$

(c)  $\frac{8}{7}$

(d)  $\frac{7}{9}$

Question No.10 : Which of the following figures is equivalent to the given figure.

سوال نمبر 10: مندرجہ ذیل اشکال میں سے کون سی شکل دی ہوئی شکل کے مترادف ہے۔



Question No.11 : Solve  $\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$

سوال نمبر 11: حل کریں  $\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$

(a)  $\frac{2}{5}$

(b)  $\frac{4}{5}$

(c)  $\frac{1}{2}$

(d)  $\frac{3}{4}$

Question No.12 : Solve 168m 85cm - 111m 12cm

سوال نمبر 12: حل کریں۔ سینٹی میٹر 12 میٹر 111 - سینٹی میٹر 85 میٹر 168

(a) 57m 73cm

سینٹی میٹر 73 میٹر 57

(b) 168m 12cm

سینٹی میٹر 12 میٹر 168

(c) 168m 73cm

سینٹی میٹر 73 میٹر 168

(d) 279m 97cm

سینٹی میٹر 97 میٹر 279

**Question No.13 :**

**Adnan bought 25 m and Asad bought 34 m cloth. Total length of cloth is:**

سوال نمبر 13: عدنان نے 25 میٹر اور اسد نے 34 میٹر کپڑا خریدا۔ کپڑے کی کل لمبائی ہے۔

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| (a) 39m | 39 میٹر | (b) 49m | 49 میٹر |
| (c) 59m | 59 میٹر | (d) 69m | 69 میٹر |

**Question No.14 : Solve 5kg 500g - 3kg 250g**

سوال نمبر 14: حل کریں۔ 5 کلو گرام 500 گرام - 3 کلو گرام 250 گرام

- |              |                     |              |                     |
|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| (a) 2kg 500g | 2 کلو گرام 500 گرام | (b) 2kg 300g | 2 کلو گرام 300 گرام |
| (c) 2kg 358g | 2 کلو گرام 358 گرام | (d) 2kg 250g | 2 کلو گرام 250 گرام |

**Question No.15 : Solve 35 l 459 ml + 63 l 510 ml**

سوال نمبر 15: حل کریں۔ 35 لیٹر 459 ملی لیٹر + 63 لیٹر 510 ملی لیٹر

- |                 |                      |                 |                      |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| (a) 98 l 966 ml | 98 لیٹر 966 ملی لیٹر | (b) 98 l 967 ml | 98 لیٹر 967 ملی لیٹر |
| (c) 98 l 959 ml | 98 لیٹر 959 ملی لیٹر | (d) 98 l 969 ml | 98 لیٹر 969 ملی لیٹر |

**Question No.16 : Sania bought 4l 500ml milk from shop. She used 2l 500ml to make tea and milk shake, remaining milk will be:**

سوال نمبر 16: ثانیہ نے 4 لیٹر 500 ملی لیٹر دودھ خریدا۔ اس نے 2 لیٹر 500 ملی لیٹر چائے اور ملک شیک بنانے میں استعمال کر لیا، باقی دودھ ہوگا۔

- |            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| (a) 2litre | 2 لیٹر | (b) 6litre | 6 لیٹر |
| (c) 8litre | 8 لیٹر | (d) 9litre | 9 لیٹر |

**Question No.17 : Solve 38m - 16m**

سوال نمبر 17: حل کریں 38 میٹر - 16 میٹر

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| (a) 22m | 22 میٹر | (b) 28m | 28 میٹر |
| (c) 34m | 34 میٹر | (d) 54m | 54 میٹر |

**Question No.18 : In the night, time on clock is:**

سوال نمبر 18: رات کو گھڑی پر وقت ہے۔



- |           |           |
|-----------|-----------|
| (a) 12 am | (b) 12 pm |
| (c) 11 pm | (d) 11 am |

**Question No.19 : The time on the clock is:**

سوال نمبر 19: گھڑی پر وقت ہے۔



- |           |           |
|-----------|-----------|
| (a) 01:00 | (b) 01:50 |
| (c) 01:55 | (d) 02:55 |

Question No.20 :

Zain spends 2 hours in doing homework and 1 hour in playing cricket, total time he spends:

سوال نمبر 20: زین 2 گھنٹے گھر کا کام کرنے میں اور ایک گھنٹہ کرکٹ کھیلنے میں صرف کرتا ہے وہ کل وقت صرف کرتا ہے۔

(a) 1 hour

گھنٹہ 1

(b) 2 hours

گھنٹے 2

(c) 3 hours

گھنٹے 3


(d) 4 hours

گھنٹے 4

Question No.21 :

The diameter of the given circle is:

سوال نمبر 21: دیئے گئے دائرے کا قطر ہے۔



(a)  $\overline{ED}$

(b)  $\overline{OB}$

(c)  $\overline{OC}$

(d)  $\overline{AC}$

Question No.22 :

Number of faces in a cube are:

سوال نمبر 22: ایک مکعب میں سطحوں کی تعداد ہوتی ہے۔

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

Question No.23 :

Brick is an example of:

سوال نمبر 23: اینٹ مثال ہے۔



(a) cube

مکعب

(b) cuboid

مکعب نما

(c) square

مربع

(d) circle

دائرہ

Question No.24 :

The value of tally mark in given picture is:

سوال نمبر 24: دی گئی تصویر میں ٹیلی نشان کی قیمت ہے۔



(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 5

Question No.25 :

The following picture graph shows the number of candies that each child have. Which child has the least number of candies? (1 picture = 1 candy)

سوال نمبر 25: دیا گیا تصویری گراف بچوں کے پاس ٹافیوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ کس بچے کے پاس سب سے کم ٹافیاں ہیں؟ (1 تصویر = 1 ٹافی)



(a) Ali

علی

(b) Waseem

وسیم

(c) Kaleem

کلیم

(d) Saleem

سلیم